



کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ کو مذہم کرتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ کو ختم کردیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہ کو ختم کرتا ہے؟

ابن شماس المہری سے روایت ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قریب المرگ تھے کہ ہمارے پاس آئے، کافی دیر تک روئے رہے اور اپنا رخ دیوار کی طرف پھیر لیا اور ان کے بیٹے کے لئے لکھا، ابا جان! کیا آپ کو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ کیا آپ کو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ پھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ ہمارے ہاں سب سے افضل لائے الا اللہ مُحَمَّد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے مجھ پر تین قسم کے حالات گزرے ہیں (پہلی حالت) میرے خیال میں آپ سے بغض رکھنے میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت نہیں تھا، نہ ہی کسی کو مجھ سے زیادہ بات پسند تھی کہ مجھے قدرت ہو تو میں آپ کو قتل کردوں اگر میں اس حال میں مرتا تو میں جہنمی ہوتا (دوسری حالت) جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں آپ کے پاس آیا اور کہا اپنے ہاتھ پھیلائیے، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، تو میں نے اپنا ہاتھ بند کر لیا، آپ نے فرمایا: عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں فرمایا: کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: شرط یہ ہے کہ اسلام لائے سے میری مغفرت کردی جائے گی، آپ نے فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام چیزوں کو ختم کردیتا ہے اور ہجرت پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کردیتی ہے اور حج پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کردیتا ہے؟“ پھر میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اور نہ ہی میرے لئے آپ سے کوئی بڑا تھا میں آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کو جی بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ میں آپ کے اوصاف بیان کروں تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لئے کہ میں جی بھر کر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا اگر میں اس حال میں مرتا تو مجھے امید تھی کہ جنتی ہوتا (تیسری حالت) پھر کچھ اور چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا کیا حال ہے؟ لہذا جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی اور آگ میرے قریب نہ لانا، جب تم مجھے دفن کر لو تو میری قبر پر پانی کے چھینٹے چھڑک دینا، پھر اتنی دیر تک میری قبر پر کھڑے ہو جانا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس رہوں اور اپنے رب کے فرشتوں کے سوال کا انتظار کروں

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث خیر کی خوشخبری اور بھلائی کو متضمن ہے اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی موت کے وقت ان کے کچھ دوست آئے تو یہ بہت زیادہ روئے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر دیا، موت کی کشمکش میں تھے عنقریب دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو نبی نے جنت کی خوشخبری دے چکی ہے انہوں نے کہا: اے پیارے بیٹے! میری تین حالتیں رہی ہیں، پھر انہوں نے تینوں حالتیں ذکر کیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ بغض رکھا کرتے تھے، روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی آپ سے بغض نہیں رکھتا تھا ان کی خواہش تھی کہ اگر موقع ملے تو وہ آپ کو قتل کر دیں، یہ بہت سخت کفر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، تو آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول! اپنا ہاتھ پھیلا دیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں، آپ نے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے واقعہ کی پختگی کے لئے تھا آپ نے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول! میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا آپ نے فرمایا: کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سابقہ کفر اور پچھلے تمام

گناہوں کو معاف کر دے گا اس کی عمرو کو سب سے زیادہ فکر دامن گیر تھی ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ ان کو سابقہ گناہ معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت پہلے کہ تمام گناہوں کو ختم کرتی ہے اور حج پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے تین چیزیں ہیں جنہاں تک اسلام لانے سے گزشتہ گناہوں کا معاف کرنا ہے تو یہ قرآن کریم میں مذکور ہے {قل للذین کفروا ان ینتھوا ینغفر لهم ما قد سلف وان یرودوا فقد مضت سنت الاولین} [الأنفال: 38] ترجمہ: ”آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے! کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے“ الہجرت: جب انسان اس علاقہ سے ہجرت کرے جس میں وہ رہتا ہے اور وہاں کفر کا غلبہ ہو، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج بھی اپنے سے پہلے کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا بنے حتیٰ کہ آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کو مسلسل دیکھنے نہیں سکتے تھے پاک دلوں کو پھیرنے والی ذات! کہ کل تک وہ آپ سے سب سے زیادہ بغض کرنے والا تھا اور آپ کو قتل کرنے کے خواہش مند تھا اور اب وہ آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کی صفات بیان کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے خوف سے آپ کو پوری طرح دیکھا ہی نہیں، جو پوری طرح ادراک کر سکیں حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ اگر میں پہلی حالت پر مرتا تو جہنمی ہوتا دیکھتا تھا اگر میں دوسری حالت پر مرتا تو مجھے اپنے جنتی ہونے کی امید تھی آپ رضی اللہ عنہ کی احتیاط کو دیکھیں کہ فرمایا اگر پہلی حالت پر مرتا تو یقیناً جہنمی ہوتا اور اگر دوسری حالت پر مرتا تو مجھے اپنے جنتی ہونے کی امید تھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہوتا اس لیے کہ جنتی ہونے کی گواہی دینا بہت سخت ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے امارت اور قیادت کے بہت سارے امور سنبھالے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی لڑائیوں میں کچھ واقعات پیش آئے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ عرب کے ذہین و فطین شخص ہیں، اور فرماتے کہ: مجھے دوسری حالت کے بعد خوف ہے کہ میں میرے اعمال کا احاطہ نہ کیا جائے پھر انہوں نے نصیحت کی کہ ان کی موت کے بعد کوئی عورت نوحہ نہ کرے النائحة: وہ عورت جو میت پر نوحہ کرتی ہے اور اس پر نوحہ خواں کبوتر کی طرح خوب روتی ہے اور حکم دیا کہ انہیں دفن کرنے کے بعد اتنی مقدار قبر پر رُکے رہنا جتنی مقدار میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکا، تاکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آجائیں جو مُردے کو دفنانے کے بعد آتے ہیں مُردے کو دفنانے کے بعد دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کی مقدار ٹھہرانے کا حکم فرمایا تاکہ وہ ان کی وجہ سے مانوس رہیں یہ اس بات پر دلالت ہے کہ مُردے قبر میں اپنے گھر والوں کو محسوس کرتا ہے آپ سے یہ ثابت ہے کہ لوگ جب مُردے کو دفن کرنا پس لوٹتے ہیں تو مُردے لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے آپ سے حسن درجہ کی حدیث میں یہ منقول ہے کہ مُردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ”اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا“ لہذا میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تین دفعہ اللهم ثبته اور تین دفعہ اللهم اغفر له کہہ کر کیونکہ آپ جب سلام کرتے تو تین دفعہ کرتے اور جب دعا کرتے تو بھی تین دفعہ کرتے خلاصہ یہ کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہہ گیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے یہ خیر کی بشارت اور مبارک باد ہے

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/3446>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

